

## حدیث: فضل الوضوء والدعاء عند النوم

(الفاظ و تراکیب کا تجزیہ)

صائمہ فاروق \*

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس لئے بھی احسان عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال کتاب کے ساتھ ساتھ ”حکمت“ عطا کی گئی، وہ حکمت جو اہل دنیا کی فکری تگ و تاز اور قلمی جوانیوں کا علمی جواب ہے۔ جو انسس و آفاق میں انسان کی تگ و دو کے لیے راہنمای خطوط مہیا کرتی ہے۔ آپ ﷺ کے ایک ایک فرمان کی تشریح میں علم و ادب کی بڑی تعداد نے حصہ لیا ہے معانی کا ایک جہاں آباد ہے جس کا ادراک کرنے کی سعی کا سلسلہ تاقیامت چلتا رہے گا۔

زیرنظر حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ سوتے وقت وضو اور دعا کی اہمیت کو اجاجگر کرتے ہیں کہ سونے سے پہلے انسان کو ظاہری نظافت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت بھی حاصل ہو جائے۔ اور نیند جو کالہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے حصول کے وقت یہ ”تحدیث نعمت“ کا عمدہ اسلوب ہے۔

### فضل الوضوء والدعاء عند النوم

عن البراء بن عازب، (۱) قال: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَئَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اسْطَعْجَعَ عَلَى شِقْلِكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَاثُ ظَهِيرَتِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُثِّ مُثِّ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَاجْعَلْهُنَّ أَخْرَ مَاتَقُولُ، فَقُلْتُ أَسْتَدِ كِرْهُنَّ؟ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ؟ قَالَ: لَا وَبِنَيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ (۲)

”براء بن عازب“ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مجھے فرمایا ”جب تم سونے لگو تو نماز کی طرح کا وضو کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹو پھر یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ میرے ثواب کے شوق اور تیرے عذاب

اسٹنسٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور، پاکستان۔

کے ڈر سے میں نے اپنا نفس تیرے تالع کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنی پشت تیری طرف جھکا دی۔ کہیں اور پناہ اور جھکانے نہیں مگر تیرے پاس ہی، میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لایا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تو اس رات مر گیا تو دین فطرت یعنی حق پر مرے گا اور ان کلمات کو آخر میں کہو یعنی پھر بغیر غنگلو کئے سو جاؤ۔ براء بن عاذب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یاد کرنے کے لئے دھرا یا تو میں نے کہا تیرے بھیجے ہوئے ”رسول“ پر۔ تو آپ ﷺ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم کہو کہ تیرے بھیجے ہوئے ”نبی“ پر۔

اس حدیث مبارک میں آپ ﷺ معمونیت و وسعت سے بھر پور الفاظ کے ساتھ سوتے وقت وضو کی اہمیت کو جاگر کرتے اور انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ نیند کے آغاز میں ایمان اور اسلام کی تجدید کی تعلیم دیتے ہیں۔ نیند اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اس کی قدرت، رحمت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنْتَغَاوُ كُمْ مِنْ فَضْلِهِ (۳)  
”اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا اور تمہارا اس کے فضل سے (حصہ) تلاش کرنا ہے۔“

غور و فکر ایک بہت خوبصورت نکتہ کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ نیند جو بندے پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ یہ ماضی کی تھکاوٹ اور مستقبل کی پھرتی دونوں کے لئے مفید ثابت ہوتی ہے جب اس نعمت کے حصول کا وقت آئے تو انسان اپنے رب کی بزرگی و عظمت اور اپنی عاجزی اور بندگی کا اعتراض کرے گویا کہ یہ ”اقرار و تصدیق“ ”تحدیث نعمت“ ہے۔

عربی زبان میں سونے کے لئے بیاتاً وَهُمْ نَائِمُون (۲) ”اور وہ سوئے ہوئے ہوں“، ”هَجَعَ: کَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (۵)“ وہ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے، ”رَقْد: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ (۶)“ اور تم ان کو خیال کرو گے کہ وہ جاگتے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں“، ”قَالَ (فیل): فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًاً أَوْ هُمْ فَأَتَلُونَ (۷)“ پس ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں آیا، یا جب وہ دوپھر کو سور ہے تھے“ اور هَجَدَ کبھی سونے اور کبھی جاگنے کے معنی دیتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَهَجَدُ بِهِ (۸) ”اور بعض حصہ شب میں بیدار ہو کر تجدید کی نماز پڑھا کرو“ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں لیکن آپ ﷺ زیر بحث حدیث میں ضَجَعَ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ سونے کے لئے استعمال ہونے والے باقی تمام الفاظ میں لمبا سونا، گہری اور

غفلت کی نیند سونا، دوپہر کو سونا اور رات کو بھی سونا اور کبھی جا گنا کا مفہوم آتا ہے۔ ان تمام الفاظ میں کہیں بھی بستر پر سونے کا مفہوم نہیں آتا، جس سے آرام دہ نیند کا مفہوم نکلتا ہے۔

نیند جو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اور حیات دنیا میں انسان کو اس کی تھکاوٹ سے نجات دے کر اس کا حل بتاتی ہے تو یہ بات قابل غور ہے کہ جب انسان کو سوتے وقت انعاماتِ ربانی کے اعتراض کا طریقہ سکھانا تھا تو آپ ﷺ نے ”ضَجَعَ“ کا لفظ استعمال کیا کہ دن بھر کا تحکماً نامنہ انسان جب آرام کے لئے اپنے بستر کی طرف آتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔

یہاں ایک اور لطیف نکلتہ ابھرتا ہے کہ آپ ﷺ نے ضَجَعَ کا لفظ اس لئے بھی استعمال کیا کہ عربی زبان میں سونے کے لئے مستعمل الفاظ میں یہ واحد لفظ ہے جو خود دن بھر کے بعد رات کو سونے کا مفہوم دیتا ہے کہ ”ونجوم ضواجع: مائلة للغروب“ ستارہ کا ڈوبنے کی طرف مائل ہونا (۹) اور ”ضَجَعَتِ الشَّمْسُ“ غروب کے لئے مائل ہونا کو کہتے ہیں (۱۰) اور اسی لئے آپ ﷺ اپنی حدیث میں ”إِذَا أَتَيْتَ مَضْجُعَكَ“ کہہ کر مراد یہ لیتے ہیں کہ جب تم (رات کو) سونے کے لئے آؤ۔

آپ ﷺ کہتے ہیں کہ جب تم سونے کے لئے آؤ تو وضو کرو اور بات صرف فتوضاً پر ختم نہیں ہوتی بلکہ آپ ﷺ ”وضوءُكَ لِلصَّلَاةِ“ ”نماز کی طرح کا وضو کرو“ کہہ کر بیک وقت فکری اور عملی طہارت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ نماز انسان کی فکر کو پا کیزہ کرتی ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (۱۱)  
”بیشک نماز، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔“

”الصلوة صلة بين العبد وربه، وتذكر العبد به وامر مراقبة لله - عزوجل - فيحسن باطنہ

کما يحسن ظاهره۔“ (۱۲)

”نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق ہے اور بندے کے لئے یاد دہانی ہے کہ وہ

ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں ہے پس یہ اس کے ظاہر و باطن کو اچھا کر دیتا ہے۔“

معلوم ہوا کی وضو سے عملی طہارت حاصل ہوتی ہے تو نماز فکر کو پا کیزگی عطا کرتی ہے، نتیجتاً عمل صالح ہو

جاتا ہے۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَخْدِ كُنْمَ يَغْسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَاتَقُولُ ذَلِكَ يُّقِنُّ مِنْ

دَرَنِهِ؟ قَالُوا لَا يُّقِنُّ مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ

الْخَطَايَا۔ (۱۳)

”اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو، جس میں وہ ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو تم کیا کہتے ہو کہ یہ کام اس پر کچھ بھی میل کچیل چھوڑے گا؟ صحابہ کرامؐ نے عرض کیا: ایسا کرنے سے کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”پانچوں نمازوں کی یہی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“

اسی لئے آپ ﷺ نے اپنی ایک حدیث میں نمازوں کو بہترین عمل اور وضو کو ایمان کی دلیل بتایا۔

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَعْمَلُوا، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ۔ (۱۴)  
”سید ہے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو، نیک عمل کرتے رہو اور اچھے اعمال اختیار کرو اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز کا ہے اور وضو کی حفاظت صرف مومن کرتا ہے۔“

گویا نماز کی طرح وضو کی محافظت بھی ایمان کی دلیل ہے اور جہاں محافظت سے مراد ہمیشہ حالت وضو میں رہنے کی کوشش کرنا ہے وہاں اس سے مراد سنت کے مطابق وضو کرنا بھی ہے۔

اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ زیر بحث حدیث میں آپ ﷺ کے مطابق وضو کرنا بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نماز کی طرح وضو کرو یعنی سنت کے مطابق وضو کروتا کہ ظاہری نظافت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت بھی حاصل ہو جائے لیکن آپ ﷺ کے مطابق وضو کرو بلکہ فرماتے ہیں کہ ”وضوء ک للصلوة“ یعنی نماز کی طرح وضو کرو۔ اس سے یہ نکتہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کے لئے وضو کرنا ضروری ہے ”مِفتَاحُ الصَّلَاةِ الظُّهُورُ“ (۱۵) ”طہارت (وضو) نماز کی چاپی ہے“ تو آپ ﷺ ”وضوئك للصلوة“ کہہ کر اس وسعت اور معنویت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نعمت رب کا تصدیق و اقرار کرتے ہوئے سنت کے مطابق سونا بھی ایک عبادت ہے۔

نماز کی طرح وضو کرنے سے یہ نکتہ بھی سامنے آتا ہے کہ جیسے نماز انسان کو اس کے ازلی دشمن شیطان کے حملوں سے بچاتی، نظمات سے نور کی طرف لے کر جاتی اور دخولِ جنت کا سبب بنتی ہے اسی طرح رات کے وقت نماز کی طرح وضو کرنا انسان کو شر سے بچاتا ہے۔ رات کی اس تاریکی کے شر سے بچاتا ہے جس کے دامن میں فتن و فجور ہوتے ہیں۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (۱۶)

”کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔“  
نیند اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے وہ نعمت بن جاتی ہے کہ انسان تھکاوٹ سے آرام پا کر آئندہ کام کا ج  
کے لئے مستعد اور ہوشیار ہو جاتا ہے۔

**هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ (۱۷)**

”وہی ذات ہے جس نے تمہارے لئے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔“

حدیث کے مطابق نیند کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ دائیں کروٹ لیٹے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کروٹ اور پہلو کے لئے عربی زبان میں عام استعمال ہونے والے الفاظ ”جنب“ اور ”عطف“ کی بجائے حدیث مبارک میں ”شق“ کا لفظ آیا جو ”ایک جانب“ اور ”کنارہ“ کے ساتھ ساتھ ”مشقت“ اور ”حقیقی“ کا مفہوم بھی دیتا ہے۔

مشق الشيء، جزوه و نصفه و جانبه والجهد والمشقة الشفيق: الاخ من الاب والام -

الشفيقية: الاخت من الاب والام (۱۸)

”کسی چیز کا ایک کنارہ، اس کا ایک جزء یا اس کا نصف اور محنت اور مشقت۔ شقیق سے سگے بھائی اور شفیق سے سگی بہن کو کہتے ہیں۔“

معلوم ہوا کہ لفظ ”شق“ معنوی حasan سے بھرپور حقیقی اور واقعی اسلوب ہے کہ رات کو سونے کے لئے دائیں طرف کروٹ لینا بعض اوقات ایک مشقت طلب عمل بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو دائیں کروٹ یا سیدھا لیٹنے کی عادت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دائیں کروٹ لیٹیں تو نیند نہیں آتی تو پھر دائیں کروٹ لیٹ کر سونے کی عادت ڈالنے کے لئے انہیں محنت کرنا پڑتی ہے لیکن ایسا کرنا دو وجوہات سے ”حقیقی“ اور ”لازم“ بھی ہے۔ ایک یہ کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں، بلکہ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل اور حکم سے ثابت ہے اور دوسرا یہ کہ بدن کی اصلاح کے لئے بھی یہ ہی حقیقی ہے۔

خلیل احمد سہارنپوری لکھتے ہیں:

قَالَ إِبْرُهِيمُ الْحَبْرِيُّ: هَذِهِ الْهَبَيْبَةُ نَصُّ الْأَطْبَاءِ عَلَى أَنَّهَا أَصْلُحَ لِلْبَدَنِ قَالُوا: يَبْدُأُ بِالنِّتِيَادِ عَلَى  
الْأَيْمَنِ سَاعَةً ثُمَّ يَنْقُلِبُ إِلَى الْأَيْمَنِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ سَبَبَ لِإِنْجِدَارِ الطَّعَامِ، وَالثَّانِي عَلَى  
الْأَيْسَارِ يَهْضَمُ۔ (۱۹)

”ابن جوزی کہتے ہیں کہ اطباء کے مطابق بھی اصلاح بدن کے لئے یہ بیت ہی زیادہ صحیح ہے کہ

پہلے ایک گھنٹے کے لئے دائیں طرف اور پھر بائیں کروٹ لیٹیے کیونکہ دائیں کروٹ پر لیٹنا کھانے کے نیچے جانے (معدے میں جانے) کا سبب ہے اور بائیں طرف لیٹنے سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔  
مولانا سہار نپوریؒ خود اس پر تبصرہ کرتے ہیں:

لکن مؤدی الحدیث ہو النوم علی الایمن مطلقاً لا فی وقت خاص و ذلك لأن القلب اذا يكون عالیاً غير محتمل يكون متیقظاً۔ (۲۰)

”لیکن حدیث کا مقصد کسی خاص وقت میں نہیں بلکہ مطلقاً دائیں طرف سونا ہے کیونکہ دل جب اور  
والی طرف ہو گا تو وہ جا گتا رہے گا۔“

سہار نپوریؒ امام رازیؒ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ان النوم عَلَى الْجَنْبِ يَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى الْيَقْظَةِ وَالْذِكْرُ وَالنُّوْمُ عَلَى الْقَفَا يَمْنَعُ التَّفْكِيرِ  
وَالتَّدْبِيرِ۔ (۲۱)

”بیشک پہلو کے بل سونا جانے اور ذکر کرنے کو ممکن بناتا ہے اور چت لیٹنا تفکر و تدبر میں مانع  
ہے۔“

اور یہ کہ وہ پہلو یا کروٹ دائیں ہو یا بائیں یہ بات ہمیں زیر بحث حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اگر دائیں  
کروٹ پر سونے کی عادت نہیں بھی ہے تو اپنے نفس کو محنت کر کے اس کا عادی بناو اور اسی لئے ”شقک الایمن“ کا  
لفظ استعمال کیا۔

کچھ اور آیات اور احادیث بھی دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ ”پہلو“ کے حوالے سے جب بھی محنت اور  
مشقت کی بات کی گئی تو اس کے لئے لفظ ”شق“ کا استعمال کیا گیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْبِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ (۲۲)

”تم ان مقاموں پر نہیں پہنچ سکتے مگر آہنی جان گنو کر (یعنی بڑی محنت اور مشقت سے)۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتقوا النار ولو بشق تمرة (۲۳)

”دوخ ز کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک حصہ دے کر۔“

براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لئے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ!

تیرے ثواب کے شوق میں اور تیرے عذاب کے ڈر سے میں نے اپنے نفس کو تیرے تابع کر دیا اور اپنا چہرہ تیری طرف پھیر لیا اور اپنی پشت تیری طرف جھکا دی، تجھ سے بھاگ کر کہیں کوئی پناہ اور ٹھکانہ نہیں، مگر تیرے پاس ہی، میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے مبوعت کے گئے بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا یا۔

اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سکھاتے ہیں۔ ”اسلمت نفسی الیک“ میں اپنے نفس کو تیرے سپرد کرتا ہوں یا تیرے تابع کرتا ہوں۔ عربی زبان میں اطاعت، تابعداری اور فرمانبرداری کے لئے اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تبع: فَمَنْ تَبَعَ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون (۲۳) ”جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، ان کو نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔“ اقتداء باولئک الذین هدی اللہ فبهدھم اقتده (۲۵) ”یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے نے ہدایت دی تھی تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔“ اقتداء: یہ لفظ بُرْ مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُّقْتَدُون (۲۶) ”ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا اور ہم ان ہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔“ اسوہ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (۲۷) ”تمہارے لئے اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔“ اطاعَ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ (۲۸) ”جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے درحقیقت اللہ کی اطاعت کی۔“ استجابة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُو إِلَيْهِ وَلِرَسُولِ (۲۹) ”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو۔“ ذعن: اس میں اطاعت کے ساتھ ساتھ عاجزی اور ذلت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ وَإِنْ يَكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعَيْنَ (۳۰) ”اور اگر معاملہ ان کے حق میں جاتا ہو تو وہ اس کی طرف مطلع ہو کر چلے آتے ہیں۔“

اطاعت اور فرمانبرداری کے لئے آنے والے ان سب الفاظ میں کسی کے پیچھے چلنا، دل کی خوشی کے ساتھ اس کا حکم بجالانا، اس کی اتباع کرنا اور کبھی اپنے مفاد کی خاطر کسی کا حکم مان لینا آتے ہیں۔ ان سب الفاظ میں کسی کے معنی و مفہوم میں وہ بات نہیں پائی جاتی جو ”اسلام“ میں ہے یعنی کسی کی رضا کے سامنے سرتسلیم خرم کر دینا۔

وَمَنْ أَحْسَنْ دِينًا مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ (۳۱)

”اور اس سے اچھا کس کا دین ہے جس نے اپنا سر اللہ کے لئے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے۔“

السلام والسلامۃ میں ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ رہنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔

السلام والسلامۃ التعری مِنَ الآفاتِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ۔ (۳۲)

سلم اور سلامتی کے معنی ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ اور پاک رہنے کے ہیں۔  
باطنی عیوب سے سلامتی کے لئے قرآن میں آتا ہے۔

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيمٍ (۳۳)  
”مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا،“۔

اور ظاہری عیوب کے لئے

مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا (۳۴)

”اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔“

یعنی اس لفظ کا استعمال یہ بھی مغہوم دیتا ہے کہ انسان چھا جانے والی رات اور اس کی تاریکی کے شر سے بچنے کے لئے خود کو اپنے رب کے سپرد کر دے۔ امام راغبؒ لکھتے ہیں:

السلام اسم من اسماء الله تعالى والسلام المومن المهيمن (۳۵) قبل وصف بذلك من

حيث لا يلحقه العيوب والافات التي تلحق الخلق۔ (۳۶)

”السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وصف سلام کے ساتھ موصوف ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو عیوب و آفات مخلوق کو لاحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔“

صاحب لسان العرب لکھتے ہیں:

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (۳۷) ای لاداء فيها ولا يستطيع الشيطان ان يصنع فيها شيئاً (۳۸)

”سلامتی ہے طلوع فجر تک یعنی شیطان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس میں کچھ کر سکتا ہے۔“

گویا اطاعت و فرمانبرداری کے لئے آنے والے تمام الفاظ کے مقابلے میں جو مغہوم اسلامت و جہی الیک سے ادا ہو رہا ہے وہ کسی اور لفظ سے ممکن ہی نہیں تھا۔

بظاہر سادہ سے الفاظ کے استعمال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کرنے کی تعلیم دیتے ہیں لیکن فصاحت و بلاغت اور معنویت و وسعت کی جو گہرائی ان الفاظ میں موجود ہے اور اس سے جو نکات نکلتے ہیں، ہم انکا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیتے ہیں کہ تم کہو: ”وفرضت امری الیک“ اور میں نے اپنے معاملات تیرے سپرد کئے۔

عربی زبان میں معاملات سپرد کرنے کے لئے اکفل، کَفَلَ، وَكَلَ، دَفَعَ إِلَى، اور استودع کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ”اکفل: فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّزْنِي فِي النِّخَطَاب“ (۳۹) ”یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور بات کرنے میں مجھ پر غالب آتا ہے۔ ”کَفَلَ: وَكَفَلَهَا زَكِيرِيَّا“ (۴۰) ”اور اس کی تربیت زکریا علیہ السلام کے سپرد کی،“۔ ”وَكَلَ: قُلْ يَتَوَفَّ كُمْ مَلَكُ الْمُوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ“ (۴۱) ”کہہ ذکریے، موت کا جو فرشتم پر مقرر کیا گیا ہے، تمہاری رو جس قبض کر لیتا ہے۔“ دفعہ الی: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفُعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ“ (۴۲) ”پھر اگر تم ان (یتیم زیر کفالت بچوں میں) عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔“ استودع: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ كُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقْرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ“ (۴۳) ”وہی تو ہے جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا، پھر تمہارے لئے ایک جگہ (دنیا) ٹھہر نے کی ہے اور ایک جگہ (قبر) سپرد ہونے کی۔“ سپرد کرنے اور حوالے کرنے کے لئے یہ سب الفاظ مفہوم رہے ہیں ذمہ داری کسی کے سپرد کرنے کی، اس پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی چیز اس کے حوالے کرنے کی یا پھر ابطور امانت کوئی چیز کسی کے حوالے کرنے کی۔ ان تمام الفاظ میں کسی میں یہ مفہوم نہیں پایا جاتا کہ کسی معاملے کا اختیار کسی کے سپرد کر دینا اور پھر اسے اس کا حاکم بنادینا۔ لفظ ”فُوْض“ کے مفہوم کی وسعت اور بلاغت دیکھئے۔ فوض الیہ الامر (۴۴) کسی کام کا اختیار کسی کے سپرد کر دینا اور پھر اسے اس کا حاکم بنادینا۔ وافوض امری الی اللہ (۴۵) ”میں اپنے تمام معاملات اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں“۔ یعنی اس کے ہی سپرد کرتا ہوں سب معاملات اور اسے ان سب معاملات پر حاکم بھی مانتا ہوں۔ فوض امری الیک (۴۶) ”میں نے اپنا کام تجھے سونپ دیا (تو جیسا چاہے ویسا حکم دے)۔“

لفظ فوض پر تکلیف و تدبیر ایک بہت خوبصورت کلتے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فوضی کہتے ہیں مشترک کو۔

فاوضہ مفاوضۃ فی الامر۔ برابر ہونا، شریک ہونا، اہم بات چیت کرنا۔ (۴۷)

امام راغب لکھتے ہیں:

وافوض امری الی اللہ (۴۸) ارڈہ الیہ و اصلہ من قولہم مالہم فوضی بینہم و منه شرکۃ المفاوضۃ (۴۹) ”اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں یعنی میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اصل میں یہ ان کا مال سب میں مشترک ہے کہ محاورے سے مشتق ہے اور اسی سے ”شرکۃ مفاوضۃ“ ہے یعنی کمپنی جس میں سب کے حصے مساوی ہوں۔“

”تفاوض القوم فی الامر“ مذاکرے کو کہتے ہیں۔ (۵۰) ”بِمَ ضَبَطَتْ مَا ارَى قَالَ بِمِفَاوضَةِ الْعُلَمَاءِ“ (معاویہ نے عفل بن حنظله سے کہا) تم نے اتنا علم جو میں دیکھ رہا ہوں کیسے حاصل کیا، انہوں نے کہا

عالموں کے ساتھ معاملہ کیا یعنی میں جس عالم سے ملا تو جو علم اس کے پاس تھا اس سے حاصل کیا اور جو میرے پاس تھا وہ اس کو دیا۔ (۵۱)

گویا ”فَوَض“ کے لفظ سے یہ نکتہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ تمام معاملات جو اللہ نے اپنے بندے کے سپرد کئے۔ ان اللہ فوض الی المومن امورہ کلھا (یعنی مباح امور میں اس کو اختیار ہے جو چاہے کرے ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا) بندہ سونے سے پہلے ان تمام معاملات کو جو ظاہر اس کے اختیار میں ہیں، اپنے رب کے نہ صرف سپرد کرتا ہے بلکہ اسے حاکم مانتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس قادرِ مطلق کے حوالے کرتا ہے۔ اور پھر والجأت ظہری الیک میں فصاحت و بлагعت اپنے نقطے عروج پر چلی جاتی ہے۔ کہ خود رب العالمین کی پناہ میں آنے کے الفاظ کی بجائے یہ الفاظ استعمال کئے گئے کہ میں نے اپنی پشت اس کے ساتھ گاہدی یا اس کی پناہ میں دے دی۔ ”ظہر“ کا لفظ بطور استغفارہ استعمال کیا گیا کہ بوجھ عام طور سے پیچھے پر ہتھی اٹھایا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی یہ اسلوب اختیار کیا۔

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (۵۲)

”اور اس نے وہ بوجھ تم سے ہٹا دیا، جس نے تمہاری کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔“

یعنی شعوری اور لا شعوری طور پر انسان جو بوجھ اپنے اوپر لاد لیتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنے رب کی پناہ میں آتا ہے، اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیتا ہے اور یہ سب اس کے عذاب کے ڈر اور ثواب کے شوق سے کرتا ہے۔

يَدْعُونَا رَغَبًاً وَرَهَبًاً (۵۳)

”وہ ہمیں پکارتے رہتے ہیں ہمارے فضل کے شوق اور ہمارے عذاب کے ڈر سے۔“

ڈرنے کے لیے عربی زبان میں جتنے لفظ مستعمل ہیں ان میں یہ معنی نہیں پائے جاتے جو لفظ ”رَهْب“ میں ہے۔ یہاں پر اگر خاف، خشی، خشع اور اتنی کے لفظ استعمال کئے جاتے تو وہ معنویت نہ پائی جاتی یا وہ مفہوم نہ ادا ہو سکتا جو لفظ ”رَهْب“ سے ادا ہو رہا ہے کہ ”رَهْب“ ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط بھی شامل ہو اور یہ کیفیت طویل بھی ہو۔ (۵۴)

تُوْهُؤُنَ بِيَهَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ (۵۵)

”اس سے تم اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر خوف بٹھائے رکھو گے۔“

”رہبانية“ اسی سے ہے۔

الرہبانية: غلو فی تحمل التبعید من فرط الرہبة و هی بدعة ابتداعوہالم يشرعها الحق -

عزوجل۔ (۵۶)

”فِرطُ خوفٍ سے عبادت گزاری میں غلوکرنے کو رہبانیت کہا جاتا ہے اور یہ بدعت ہے جو انہوں نے از خود ایجاد کی، اللہ عزوجل نے اس کو شریعت نہیں بنایا۔“

غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جہاد کو رہبانیت اسی لئے کہا کہ مجاہد اللہ کے دین کا سپاہی بن کر باطل سے نبرد آزمائنا ہے اور حق کے غلبے کے لئے اپنی جان اور صلاحیتیں اس طرح کھپا دیتا ہے کہ دشمنوں کو ڈرا تابھی ہے اور ان میں اضطراب بھی پیدا کر دیتا ہے۔

وعليک بالجهاد فانه رهبانية الاسلام (۵۷)

”تم پر جہاد فرض ہے اور یہی اسلام کی رہبانیت ہے۔“

زیر بحث حدیث میں اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے لئے افظور حب کا استعمال یوں بھی بہت معنویت رکھتا ہے کہ ساتھ ہی اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے شوق کے لئے رغب کا لفظ آیا جو رحبت کی ضد ہے اور قرآن نے بھی ان اضداد کو استعمال اسی طرح کیا ویدعوننا رغبا و رہبا رغب کے اصل معنی کسی چیز میں وسعت کے بھی ہیں۔ رغبیت بہت بڑے انعام کو کہتے ہیں۔

امام راغب <sup>لکھتے ہیں:</sup>

اصل الرغبة السعة في الشيء يقال رغب الشيء اتسع وحوض رغيب (۵۸)

”رغبیت کے اصل معنی کسی چیز میں وسعت کے ہیں اور رغب اشیاء کسی چیز کا وسیع ہونا اور حوض رغب، کشادہ حوض کو کہتے ہیں۔“

والرغبة العطاء الكثير اما لا کونه مرغوبا فيه فتكون مشتقة من الرغبة، واما لسعته ف تكون

مشتقة من الرغبة بالاصل، قال شاعر: يعطي الرغائب من يشاء و يمنع (۵۹)

”اور رغبیت کے معنی بہت بڑے عطا کے ہیں یہ رغبت سے مشتق ہے یا تو اس لئے کہ وہ مرغوب فیہ ہوتی ہے اور یا اصل معنی یعنی وسعت کے لحاظ سے عطا کی رغبیت کہا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے: وہ حصے چاہتا بڑے بڑے عطا یا بخشنا اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔“

الله رب العالمين کی رضا حاصل کرنے کے لیے ”ابتعاء“ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى (۲۰) ”مگر مرضی چاہتے ہوئے اپنے رب کی، جو سب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ”رغب“ کا لفظ ”رحب“ کے ضد ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ گہرائی لئے ہوئے ہے اور پھر جو معنویت اس لفظ میں پائی جاتی ہے وہ لفظ ”ابتعاء“

میں نہیں کہ ”ابغا“ میں کسی چیز کی شدید طلب سخت کوشش کے ساتھ ہے اور ”راغب“ میں کسی چیز کے لئے شدید حرص رکھنا، لیکن اس میں کوشش کو دخل نہیں ہے۔

انہ لوحظ فی الرغبة معنی الحرص و فی الابتغا معنی الشدة والاجتهاد (۶۱)

”یہ کہ لحاظ کیا جاتا ہے کہ رغبت میں صرف شدید طلب کے معنی آتے ہیں اور ابتغا میں طلب کے ساتھ کوشش کے بھی“۔

”راغب“ اور ”راہب“ کے الفاظ کی مزید وضاحت حضرت عمر فاروقؓ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے۔

وقد لخص امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ – عند موته حياة المؤمن الحق، عند ما قالوا

لہ: جزاک اللہ خيرا فعلت و فعلت، فقال: راغب و راهب قال ابن الاثير المعنى: راغب

فیما عند الله و راهب من عذابه (۶۲)

گویا رہبہ و رغبہ کی ملی جملی کیفیات کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا ایمان کے کمال کی دلیل اور اسلام کا حسن ہے۔ دارین میں سعادت کا سبب ہے کہ ترغیب امید پیدا کرتی ہے اور عمل پر ابھارتی ہے اور ترھیب انسان کو متنقی بنا دیتا ہے۔ اور اس احساس کو بھی اپنے اندر تازہ کرے کہ اس کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے اللہ کی پناہ گاہ کے۔ اس اسلوب کا مقصود احساس کی شدت پیدا کرنا ہے کہ انسان کے لئے کوئی پناہ گاہ اور ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ سوائے اللہ کی پناہ گاہ کے۔ جیسے لا اله الا اللہ“ کوئی معبد ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ اسلوب اقرار ہے کہ بے چین اور مضطرب انسان کے لئے عافیت اور پناہ صرف اللہ کی ذات میں ہے۔

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْسِفُ السُّوءَ (۶۳)

”کون ہے جو مضطرب کی دعا قبول کرتا ہے، جب وہ اس سے دعا کرے اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے۔“

عربی زبان میں پناہ گاہ کے لئے مستعمل الفاظ میں ”بلج“، ایک ایسی پناہ گاہ ہے جو انسان نے خود نہیں بنائی اور یہ پناہ گاہ اسے حیات فانی وابدی دونوں کی بختمی اور مصائب سے نجات دیتی ہے۔ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براء بن عازبؓ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ سوتے وقت خود کو اس محفوظ پناہ گاہ میں دے دو کہ شیطان جیسے دشمن کے حملوں سے نج سکو۔

”نجا“، ”نجا“ سے ہے، جس کے معنی نجات کے ہیں۔ عربی محاورہ ”نجافلان من فلان“ (۶۴) کے معنی نجات پانے کے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا (۶۵) ”پس جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کو نجات دی“، گویا

اذیت سے نجات کے لئے ”نجا“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نجا: خَلَصَ مِنْ أَذَى (۶۲) یعنی اس نے اسے اذیت سے نجات دی۔

عربی لغات میں لفظ ”نجا“ کی تحقیق ایک لطیف نکتے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ”ناجیتھے“، ”تراجوا“، ”انتجووا“ کے معنی ہیں سرگوشی کرنا۔ (۶۷) ”النجوى“ اسرار الحدیث والقوم المتناجون، یقال: ہو نجی فلان (۶۸) ”النجوى“ یعنی گفتگو کے راز اور سرگوشیاں کرنے والے لوگ۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں سے سرگوشی کی۔

گویا زیر بحث حدیث میں لفظ ”منجا“ سے یہ لطیف نکتہ سامنے آتا ہے کہ انسان رات کو جب اپنے رب کو پاد کرتا ہے تو وہ چپکے چپکے اس سے باتیں کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے اور پھر فی الحقیقت وہ ذات اس بات کی سب سے زیادہ سزاوار ہے کہ انسان اس سے سرگوشی کرے اپنامد عابیان کرے کہ وہ سمیع الدعا انسان کی پکار کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٍ عَنِّيْ فَإِنَّمَا قَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ (۶۹)

”اور جب میرے بندے آپ ﷺ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب

ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب وہ مجھے پکارے۔“

اور پھر اس لفظ سے ایک اور معنی بھی سامنے آتے ہیں کہ بلند زمین پر کسی کے ساتھ تھا ہونا ”واصلہ ان تخلو بہ فی نجوة من الارض“ (۷۰) گویا جب انسان رات کو سوتے وقت اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس سے عافیت طلب کرتا ہے تو وہ ایک بہت بلند وبالا ہستی کے ساتھ تھائی میں محو گفتگو ہوتا ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے جب یہ کلمات سکھائے تو کہا کہ ان کلمات کو سب سے آخر میں کہو۔ اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ سوتے وقت کے اذکار میں سب سے آخر میں پڑھواور یہ بھی کہ ان کلمات کو آخر میں کہو اور پھر بغیر گفتگو کے سو جاؤ۔ اور آپ ﷺ نے کہا کہ اگر تو اس رات مر گیا تو ”دین فطرت“ یعنی حق پر مرے گا۔ فطرۃ سے مراد حق ہے اور اس سے مراد ابتدائی تخلیق بھی ہو سکتی ہے اور پھر بطور خاص اس مخلوق کا نام رکھ دیا گیا، جو سچے دین کو قبول کرنے کے قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَيْنَا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (۷۱)

”پس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا پھرہ دین کے لئے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔“

اور حدیث میں ہے

کل مولود بولد علی الفطرة (۷۲)

”ہر بچہ فطرت صحیح پر پیدا ہوتا ہے۔“

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات تعلیم فرمائے تو حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یاد کرنے کے لئے دھرایا کہ کہیں بھول نہ جاؤ اور دھراتے وقت ”ونبیک الذی ارسلت“ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے الفاظ کی بجائے پڑھا ”وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ“ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ”لَا، وَنَبِيُّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ“ یہاں الفاظ کی معنویت وسعت نے حقیقت میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذ کار مسنون وادعیہ ما ثورہ کا التزام و اهتمام کرنا چاہیے اور پھر یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”نبی“ اور ”رسول“ دونوں صفات سے متصف ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بحیثیت معلم و مرشد جو دعا سکھائی ہے اسی کی پابندی کرو کیونکہ اس میں خیر ہے اور مسنون طریقے سے پڑھنے پر ہی اجر و ثواب موقوف ہے۔ محمد بن الحنفیہ عظیم آبادی لکھتے ہیں:

ان الفاظ الاذکار توفیقية ولها خصائص وأسرار لا يد خلها القياس، فتجب المحافظة

علی اللفظ الذی وردت به (۷۳)

”ذکر کے الفاظ توفیقی ہیں اور ان کی خصوصیات اور اسرار میں کسی قاعدے، قانون کو دخل نہیں۔ پس اسی لفظ کی پابندی ضروری ہے جو (حدیث میں) آیا ہے۔“

اس سے یہ نکتہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ رسول کا لفظ بشری رسول اور ملکی رسول یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ دونوں پر بولا جاتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - ذُو قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ (۷۴)

”بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے۔ بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے۔“

اور لفظ ”نبی“ کا اطلاق صرف بشری نبی پر ہوتا ہے۔ اس لئے جب تم کو گے نبیک الذی ارسلت تو گویا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مبعوث اور رسالت کی شہادت کو جمع کر دیا لہذا ”ونبیک الذی ارسلت“ کے الفاظ ”وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ“ کے الفاظ سے زیادہ اولیٰ اور بہتر ہیں۔

خلیل احمد سہار نپوری لکھتے ہیں:

ان فی النبی معنی الرفعۃ و معنی الرسالۃ يحصل فی قوله ”ارسلت“ بخدشہ ماورد من قوله علیہ السلام ”و رسوله الذی ارسلت“ بل الوجه ان اللفظ الذی دعابہ علیہ السلام اقرب الاجابة۔۔۔(۷۵)

”بلاشبہ نبی“ کے معنی میں رفت جبکہ رسالت کے معنی ”ارسلت“ سے حاصل ہو جاتے ہیں اور جو کچھ نبی علیہ السلام کے قول میں وارد احوال لفظ رسول کے آنے سے وہ مجروح ہو جاتا بلکہ اُس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس لفظ سے آپ علیہ السلام نے دعا مانگی وہ قبولیت میں اقرب ہیں۔۔۔

اس حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ کے الفاظ و تراکیب کے علمی مکارم و محسن اور معنویت و سمعت کا منفرد اسلوب ذہنوں کو براہ راست متاثر کرتا اور قلوب واذہان میں جا گزیں ہو کر عمل کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ آپ ﷺ انسانی فطرت کے باض تھے۔ آپ ﷺ کی گفتگو سے انسان نے آگئی بھی پائی اور سرو بھی۔ فکر و نظر میں نکھار پیدا ہوا اور علم کی وسعتوں اور خبر کی گہرائیوں تک رسائی حاصل ہوئی۔  
قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں:

آنحضرت ﷺ نہایت شیریں کلام اور کمال فصح تھے۔ کلام میں آورد (تختی) ذرا نہ تھی۔ گفتگو ایسی دلاؤیز ہوتی کہ سننے والے کے دل و روح پر قبضہ کر لیتی۔ (۷۶)

الفاظ و تراکیب کا موقع محل کے مطابق استعمال نفس انسانی میں ایمان کی آیاری کرتا ہے کہ سوتے وقت نیند کے نعمت الہی ہونے کے اعتراض اور یادِ الہی کے اعلان کے ساتھ خود کو اللہ کی پناہ میں دینے کا اقرار کیا جائے اور ایمان کی تجدید کی جائے۔ یہ بھی کہ آپ ﷺ کی طریقے اور سنت کا اتباع کیا جائے۔ سنت کے علاوہ وارد شدہ وظائف سے اجتناب کیا جائے کہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل جائز نہیں۔

## حوالہ جات و حواشی

- (١) البراء بن عازب بن الحارث بن عدی الانصاری (٤٧ھ/ ٦٤٩م) چھوٹی عمر میں ہی اسلام قبول کیا اور آپ ﷺ کے ساتھ ۱۵ غزوات میں حصہ لیا۔ پہلا غزوہ جس میں حصہ لیا وہ غزوہ خندق تھا۔ بخاریؓ اور مسلمؓ نے آپؐ سے احادیث روایت کی ہیں۔ دیکھیے: ابن حجر، احمد بن علی بن محمد، العسقلانی، ابوالفضل، الاصابة فی تمییز الصحابة، ۳۱۱/۱، دارالكتب العلمية، بیروت، ط: الاولی، ۱۴۱۵ھ۔ و انظر ابن حجر، احمد بن علی بن محمد، العسقلانی، ابوالفضل، تهذیب التهذیب، ۲۲۶/۱، دارة المعارف النظامية، الحمد، ط: الاولی، ۱۴۲۶ھ۔
- (٢) بخاری محمد بن اسماعیل، الجامع الصحيح، کتاب الدعوات، باب إذا بات طاهراً، ح: ٦٣١، و کتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء، ح: ٢٢٧، و انظر صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب الدعاء عند النوم، ح: ٢٧٠، و انظر سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب کیف یتَوَجَّهُ، ح: ٥٠٣٦، و انظر سنن ترمذی، ابواب الدعوات، ح: ٣٥٧۔
- (٣) الروم (٣٠): ٢٣
- (٤) الاعراف (٧): ٩٦
- (٥) الزمر (٥١): ٧
- (٦) الکھف (١٨): ١٨
- (٧) الاعراف (٧): ٣
- (٨) بنی اسرائیل (١٧): ٩٧
- (٩) الزمخشری جار اللہ، محمود بن عمر و بن احمد، ابوالقاسم، اساس البلاغة، باب: ص ج ع، ح: ١، ص: ٣، ٥، دارالكتب العلمية، بیروت، ط: الاولی، ۱۴۱٩ھ- ١٩٩٨م
- (١٠) الفارابی، اسماعیل بن حماد الجوہری، ابوالنصر، باب: ضمیح، ح: ٣، ص: ١٢٢٨، دارعلم للملائین، بیروت، ط: الرابعة، ١٤٠٧ھ- ١٩٨٧م
- (١١) العنكبوت (٢٩): ٢٥
- (١٢) صالح بن عبداللہ بن حمید لشخ، نصرة النعيم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم صلی الله علیہ وسلم، ح: ٦، ص: ٢٥٨٣، دارالوسیلۃ للنشر والتوزیع، جدة، ط: الرابعة، س-ن
- (١٣) الجامع الصحيح، کتاب مواقیع الصلاۃ، باب: الصلواتُ لِخَمْسٍ كُفَّارٌ، ح: ٥٢٨، و انظر صحیح مسلم، کتاب

- الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْمُشْبِي إِلَى الصَّلَاةِ تُمْلِحُ بِهِ الْخَطَايَا وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ، ح: ٢٦٧، وانظر سنن الترمذى، ابواب الامثال، باب مثَلُ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ، ح: ٢٨٢٨، وانظر سنن نسائى، كتاب الصَّلَاةِ، باب فَضْلِ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ، ح: ٣٦٣، وانظر منسند احمد، ح: ٨٩٢٣.
- (١٤) ابن خليل: امام، منسند احمد، ٢٨٢/٥، ح: ٢٢٧.
- (١٥) ترمذى، محمد بن عيسى بن سورة، ابو عيسى، الجامع / السنن ، كتاب الطهارة، باب ما جاء ان مفتاح الصلوة الطهور، ح: ٢٣٨، دارالسلام، الرياض، ط: الاولى، ١٤٢٠، ١٩٩٩م.
- (١٦) الفرق (١١٢): ٣.
- (١٧) يوں (١٠): ٦٧.
- (١٨) ابراهيم انبىء، الدكتور عبد الحليم، الدكتور عطيه الصراحي، محمد خلف الله احمد، المعجم الوسيط، ص: ٣٨٩، القاهرة، ط: الثانية، ١٣٩٢-١٩٧٢هـ.
- (١٩) سهار پورى، خليل احمد شيخ، بذل المجهود فى حل سنن ابى داود، ص: ١٠١، دارالبيان الاسلامية، بيروت، ط: الاولى ٢٠٠٢ء.
- (٢٠) ايضاً، ص: ١٠٢.
- (٢١) ايضاً، ص: ١٠٣.
- (٢٢) انخل (١٢): ٧.
- (٢٣) الجامع الصحيح، كتاب الرَّكُوعُ، باب أَتَقُولُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالْقُلْيُلِ مِنَ الصَّدَقَةِ، ح: ١٣١، وكتاب الادب، باب طِيبُ الْكَلَامِ، ح: ٢٠٣٣، وكتاب الرِّفاق، باب مَنْ نُوِّقَشَ الْحَسَابُ عُذْبَ، ح: ٢٥٣٠، وباب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ح: ٢٥٢٣، وكتاب التوحيد، باب كَلَامُ الرَّبِّ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ، ح: ٥١٢، وانظر صحیح مسلم، كتاب الزَّكَاةِ، باب الْحَجَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَبِيعَةٍ، وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ، ح: ١٠١٦، وانظر سنن ابن ماجة، كتاب السنَّةِ، باب فِيمَا أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ، ح: ١٨٥، وابواب الزَّكَةِ، باب فَضْلِ الصَّدَقَةِ، ح: ١٨٣٣، وانظر سنن نسائى، كتاب الزَّكَاةِ، باب الْقُلْيُلِ فِي الصَّدَقَةِ، ح: ٢٥٥٣، وانظر منسند احمد، ح: ١٨٣٤، ١٨٣٢، ١٨٢٢، ١٨٢١، ١٨٢٥٢، ١٨٢٢٨، ١٨٢٥٣، ١٨٢٢٣، ١٩٣٨٧، ٢٥٠٥٧، ١٩٣٢٧.
- (٢٤) البقرة (٢): ٣٨.
- (٢٥) الانعام (٢): ٩٠.
- (٢٦) الزخرف (٣): ٢٣.

- (٢٧) الاحزاب (٣٣): ٢١
- (٢٨) النساء (٢): ٨٠
- (٢٩) الانفال (٨): ٢٣
- (٣٠) النور (٢٣): ٣٩
- (٣١) النساء (٢): ١٢٥
- (٣٢) الاصفهانى، الحسين بن محمد المعروف بالراغب، ابوالقاسم، المفردات فى غريب القرآن، باب: سلم، ص: ٣٢١، دارالقلم، دمشق، بيروت، ط: الاولى، ١٤٣٢ھ
- (٣٣) اشتراء (٢٦): ٨٩
- (٣٤) البقرة (٢): ١٧
- (٣٥) الحشر (٥٩): ٢٣
- (٣٦) المفردات فى غريب القرآن، باب: سلم، ص: ٣٢٢
- (٣٧) القدر (٩٧): ٥
- (٣٨) الافريقي، جمال الدين ابن منظور الانصارى الرويشنى، لسان العرب فصل السينين، ج: ١٢، ص: ٢٨٩، دارصادر، بيروت، ط: الثانية، ١٤٣٢ھ
- (٣٩) ص (٣٨): ٢٢
- (٤٠) آل عمران (٣): ٣٧
- (٤١) السجدة (٣٢): ١١
- (٤٢) النساء (٢): ٢
- (٤٣) الانعام (٢): ٩٩
- (٤٤) لسان العرب، فصل الفاء، ج: ٧، ص: ٢١٠
- (٤٥) المؤمن (٣٠): ٢٣
- (٤٦) وحيد الزمان، علامه، لغات الحديث، ج: ٣، ص: ٣٢٦، لاہور، نعماں کتب خانہ، ط: ن، ٢٠٠٥ء
- (٤٧) لسان العرب، فصل الفاء، ج: ٧، ص: ٢١٠
- (٤٨) غافر (٣٠): ٣٣
- (٤٩) المفردات فى غريب القرآن، باب: فوض، ص: ٦٣٨
- (٥٠) الفارابي، اسماعيل بن حماد الجوهري، ابوالنصر، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، ج: ٣، ص: ١٠٩٩، دار العلم

- 
- للملايين، بيروت، ط: الرابعة، ١٤٢٠-١٤٨٧ هـ، ١٩٨٧ م
- (٥١) لغات الحديث، ٣٦٦/٣
- (٥٢) الاشراح (٩٣):
- (٥٣) الانباء (٢١): ٩٠
- (٥٤) كيلاني، عبد الرحمن، مترادفات القرآن مع فروق اللغة، ص: ٥١٩، مكتبة السلام، لاہور، ط: الاولی، س-ن
- (٥٥) الانقال (٨): ٢٠
- (٥٦) صالح بن عبد الله بن حميد الشنخ، نصرة النعيم في مكارم اخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ج: ٢، ص: ٢١٢٩، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط: الرابعة، س-ن
- (٥٧) منذر احمد، ح: ١١٧٣
- (٥٨) المفردات في غريب القرآن، باب: رغب، ص: ٣٥٨
- (٥٩) ايضاً
- (٦٠) الليل (٩٢): ٢٠
- (٦١) صالح بن عبد الله بن حميد الشنخ، نصرة النعيم في مكارم اخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ج: ٢، ص: ٢١٢٦، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط: الرابعة، س-ن
- (٦٢) ايضاً
- (٦٣) انمل (٢٧): ٢٢
- (٦٤) الاصفهانی، الحسین بن محمد المعروف بالراغب، ابوالقاسم، المفردات في غريب القرآن، باب: نجو، ص: ٧٩٢، دار القلم، دمشق، بيروت، ط: الاولی، ١٤٢٢ هـ
- (٦٥) انمل (٢٧): ٥٣
- (٦٦) ابراهيم انيس، الدكتور عبد الحليم، الدكتور، عطيه الصراحتي، محمد خلف الله احمد، المعجم الوسيط، ج: ٢، ص: ٩٠٥، القاهرة، ط: الثانية، ١٤٩٢-١٤٧٢ هـ
- (٦٧) الزمخشري جار الله، محمود بن عمرو بن احمد، ابوالقاسم، أساس البلاغة، ج: ٢، ص: ٢٥٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الاولی، ١٤١٩-١٤٩٨ هـ
- (٦٨) ابراهيم انيس، الدكتور عبد الحليم، الدكتور، عطيه الصراحتي، محمد خلف الله احمد، المعجم الوسيط، ج: ٢، ص: ٩٠٥، القاهرة، ط: الثانية، ١٤٩٢-١٤٧٢ هـ
- (٦٩) البقره (٢):

- (٧٠) المفردات في غريب القرآن، باب: نحو، ص: ٩٣، ح: ٢١٣٨
- (٧١) الروم (٣٠)
- (٧٢) سنن ترمذى، أبواب القدر، باب ماء جاء كل مولود يولد على الفطرة، ح: ٢١٣٨
- (٧٣) مباركپورى: محمد، عون المعبد شرح أبي داود، أبواب النوم، ح: ٥٠٣٨
- (٧٤) التكوير (٨١): ١٩، ٢٠
- (٧٥) سهارنپورى، خليل احمد شيخ، بذل المجهود فى حل سنن أبي داود، كتاب الأدب، ح: ٥٠٣٦، دارالبشارى الاسلامية، بيروت، ط: الأولى ٢٠٠٢ء
- (٧٦) سلمان منصور پورى، محمد سليمان، قاضى، رحمة للعالمين، ١/٢٢، يصل آباد، مركز الحرميين الاسلامي، ط: ن، س: ٢٠٠٧م

